```
سوال
مرمونزگی ادائیگی کب لازم ہے؟
                                                                                                                                                                                                                                       بر (131069) کے جواب میں دیکھ سکتے ہیں.
                                                                                                                                                                    ی کی رخصتی ہوجائے اور دخول یا خلوت صحیحہ ہونے کی صورت میں بیوی پورے مہر کی مستق ہوگی چاہیے مہر معجل ہویا غیر معجل.
                                                                                                                                                                                                                                   تتقل فتوی کمیٹی سعودی عرب کے علماء کرام کہتے ہیں:
                                                                                                                                                                                                                               " دخول ورخصتی سے بیوی پورے مہر کی مستق ہوگی "انتہی
                                                                                                                                                                                                                                                                     .(56/19),
ِ قرض ہے ، اورخاوند پر بیوی کے حقق میں سے ایک حق ہے ، اگر شرط رکھی گئی ہوتو شرط کے مطابق اس کی ادائیگی کرنالازم ہوگی ، یا پھرخاونداور بیوی کے معاشرے میں جومادت ہواس کے مطابق ادائیگی کی بائیگی بیا گئی جو تو شرط کے مطابق اس کی ادائیگر کسی شرط کے ساتھ مشروط ہو.
موخر کی کوئی مدت مقرر کی گئی بو مثلاا یک یا دوبرس یا اس سے کم یا زیادہ تومدت پوری ہونے پر خاوند کے ذمہ مہر کی ادا نیگی واجب ہوگی، خاوند کواس میں لیت ولعل سے کام نہیں لینا چاہیے، کو نکد یہ مہر بھی باتی قرض کی طرح ایک قرض ہے، اگرادا نیگی کی استطاعت رکھتا ہو تومدت پوری ہونے پرجس میں تاخیر اوا
لونی مدت متعین نرگ گئی ہو تو پھر طلاق وغیرہ یا دونوں میں سے ایک کی وفات کے وقت مہر کامطالبہ کیا جائے گا،اگر پہلے غاوند فوت ہوجائے تو بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ وصیت پوری کرنے اور وردنا، میں وراثت کی تقتیم سے قبل تزکہ ووراثت سے مہر وصول کرے، اور اگر کچھے باقی ہجے تو پھر وراثت میں سے اپن
                                                ی فوت ہوجائے تو ہوی کے ورثاء کو میں حاصل ہے کہ وہ عورت کے دوسرے اموال کی طرح مونز مہر کی وصولی کریں ، اور یہ مہر بھی عورت کے دوسرے مال کی طرح ورثاء میں حصوں کے مطابق تقییم کیا جائیگا ، ان ورثاء میں اسکا خاوند بھی شامل ہے۔
                                                                                                                                                                                                                                                                ن قيم رحمه الله كهية بين:
                                                                                                                                                                                                                                               : کچھے مہر مؤجل رکھنا اور مہر مؤجل کا حکم . . .
نداور یوی کا اتفاق ہو کہ وہ بعد میں طلب کیا جائےگا چاہے اس کی مدت نہ جمی مقرر کی گئی ہو، بلکہ فاوند کے کے ایک سومعجل اور ایک سومونز، توضیح یہی ہے کہ مہر مونز کا مطالبہ صرف موت یا علیمد گی صورت میں ہی کیا جائےگا، قاضی ابو معلی اور مسلک کے قدیم مشاخ کا یہی افتیار ہے، اورشیخ الاسلام ابن تیمیہ نے
                                                                                                                                                                                                                                                                        ى(81/3).
                                                                                                                                                                                                                                     نيخ سعدي رحمه الله سے درج ذيل سوال دريافت كيا گيا:
                                                                                                                 اگر کچھ مرشادی کے وقت فوری ادائی اور کچھ بعد میں اداکرنے پرشادی کی جائے توکیا یہ صحح ہے یا نہیں ؟ عادت یہ ہے کہ باتی با نندہ مبر موت یا علیمدگی کے وقت ہی اداکیا جاتا ہے؟
                                                                                                                                                                                                     " یہ مهر مؤخر صحیح ہے؛ چاہے وہ زبانی طور پر بولا گیا ہویا پھران کے ہاں عادت اور رواج ہو.
                       ر عورت یا عورت کے خاندان والوں کے لیے خاوند کے نکاح میں رہتے ہوئے میر مونز کی ادائیگی کا مطالبہ کرنا صحح نہیں، اوراسی طرح مہر مونز کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو خاوند سے روک لینا بھی جائز نہیں ہوگا؛ کیونکہ عقد نکاح کے وقت انہوں نے بذکورہ مہر مونز کر اتفاق کیا ہے.
لر پیٹر جائے اور میکے والے یہ مطالبہ کریں کہ ہم تواہی بچی کواسی صورت میں سرال جانے دیں گے جب مہر مونز اوا کیا جائیگا، توان کا یہ مطالبہ نامی ہے ، اوروہ عورت کواس کے خاوند سے نامی روک رہے میں ، اگروہ اس ججت پر عورت کوخاوند کے پاس نہیں جانے دیتے توجب تک بیوی اپنے خاوند کے
                                                                                                                                                                                                                                                                         ية(502).
                                                                                                                                                                                                                                 ننخ ابن عثميين رحمه الله سے درج ذيل سوال دريافت كيا گيا:
                                                                                                                                                                 کیا عورت کا مهر مونز کرنا صحح ہے؟ اور کیا یہ خاوند کے ذمہ قرض ہے جس کی ادائیگی لازم ہوگی؟ اور کیا اس میں زکاۃ واجب ہے؟
                                                                                                                                                                                                                 ہر موخر جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں؛ کیونکہ اللہ سجانہ و تعالی کا فرمان ہے:
```

ابدہ کو پورا کرنے میں اس مشرط پر بھی عمل کرنا ضروری ہے جومعاہدے میں رکھی گئی ہے .

ی شخص نے سارایا کچھ مہر موخر دینے کی شرط رکھی تواس میں کوئی حرج نہیں ، لیکن اگروقت متعین کیا گیا ہو تو وقت مقررہ پرادا نیگی کرنا ضروری ہے ، اس مدت کے پورا ہونے پروہ اداکیا جائیگا .

```
فاوند مالدار ہونے کے باوجود مہر مونز کی ادائیگی کرنے سے انکار کر دہا ہے؛ کیونکہ عقد نکاح کے وقت ولی کے ساتھ انفاق یہ ہوا تھاکہ موت یا طلاق کی صورت میں ادائیگی کرنا ہوگی، اب بوی کواس کی شدید ضرورت بھی ہے؟
                                                                                                                                                                                                                                                            خ رحمه الله كاجواب تها :
                                                                                                                                                                                                     بحم یہ ہے کہ شرط پر عمل کیا جائیگا؛ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:
                                                                                                                                                                                                                                           "مسلمان اپنی شروط پر قائم رہتے ہیں "
                                                                                                                                                         جب ناوند نے شرط رکھی تھی کہ موت یا علیمدگی دونوں میں سے ایک مدت تک مهر مونز ہے تواسے اپنی شرط پر قائم رہنا چاہیے "انتهی
                                                                                                                                                                                                                                                         ن(362361/2).
                                                                                                                                                                                                                                               اہم چیزوں پر متنبہ رہنا ضروری ہے:
الت کا نیال کرنا چاہیے کہ وہ ننگ دست ہے یا مالدار، اس لیے ننگ دستی کم صورت میں بیوی کومبر مونز کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، اوراگراچی حالت بھی ہولیکن بیوی کومال کی ضرورت نہ ہواور بیوی دیکھے کہ خاوندا بھی مرمونز کا مطالبہ انجیا نسو محت کا نقاضا بھی ہے کہ مطالبہ مونز کر دیا جائے
                                                                                                                                                                                                                                                        رسجانہ و تعالی کا فرمان ہے :
                                                                                                                                                                                                                                                                    .(128),
                       کے حق کاخیال کرنا چاہیے جس کی اس نے شرمگاہ حلال کی ہے، وہ اس کے حقوق کی پوری ادائیگ کرے، اوراس میں کسی بھی قسم کی کوتا ہی و کہی نہ کرے، خاص کرجب دیکھے کہ یوی کواس حق کی ضرورت بھی ہے، چاہے ابھی اس کی ادائیگی کا وقت نہیں آیا اسے مہرادا کر دینا چاہیے۔
                                                                                                                                                                                                                              اور پھر رسول كريم صلى الله عليه وسلم كا فرمان تويه ہے كه:
                                                                                                                                                                                                                    تم میں بہتر شخص وہ ہے جوادا ئیگی کے اعتبار سے اچھا ہو" متفق علیہ .
                                                                                                                                                                                                                                                    ایک دوسری حدیث میں فرمایا :
                                                                                                                                                                                        یقینا وہ شروط سب سے زیادہ وفا کا حق رکھتی ہیں جن سے تم نے شرمگاہ کوحلال کیا ہے "متفقہ علیہ.
 والثداعكم .
                                                                                                                                                                                                                                                         اسلام سوال وجواب
```

، مقرر نہ کی گئی ہو تو پھر طلاق یا تسخ نکاح کی بنا پر علیمد کی یا موت کی بنا پر علیمد کی علیم موت کی علیم کرنا ہوگا ، اور مهر موجل خاوند کے ذمہ قرض ہے: ہاتی قرض کی طرح وقت پورا ہونے پر ادائیکی کا مطالبہ کیا جائے گئا ، چاہتے زندگی میں ہویا موت کے بعد . . "

ى(31/18).

145955

نيخ رحمه الله سے يه بھي سوال كيا گيا: